

پروڻ قوتابی و پیرهوانی مہسیح دروست بکن

لہلایہن دوٲا
نامیلکہی چوارہم
بو پښیرہوانی گروپ
چاپی سییہم

سەرہتا:

- ئایا دہتہوٲت و ہکو یہ کٲک لہ قوتابیہکانی عیسا مہسیح لہ گہشہکردنی بہردہوامدا بیت؟

- دہتہوٲت یارمہتی باوہردارانی دیکہ بدہیت بو ئہوہی بہردہوام لہ نویوونہوہدا بن؟

چوار نامیلکہہ بخوٲنہوہ کہ بو پښیرہوانی گروپ دانراوہ، تاوہکو ہہلسن بہ دروستکردنی قوتابی و دواتر راہینان لہسەر ناوہرٲوکی ئہو چوار نامیلکہیہ بکہ! عیسا چہندین قوتابی دروستکرد، ئہو بہ خہلکی دہگوت: (فہرموون و ہرن و بیبن) وہ دواتر (دوام بکہون) "یوٲہنا 1: 39 - 43".

خہلکی لہ ہہموو شوٲنٲیکہوہدٲن و سہیردہکەن کہ عیسا مہسیح چوٲن ژیاوہ و ژیانی لہ پښناوی چی بہخشیوہ. ئہوان لہ ہہموو شوٲنٲیکی جیہانہوہ دوای عیسا مہسیح دہکہون، ئہمہش لہ پەرئہوہی کہ عیسا مہسیح کٲیہ و چی کردوہ، ئہو بہتہواوی ژیانی ئہو خہلکانہی گٲوٲوہ، ہہروہا ژیانی ئٲمہشی گٲوٲوہ! دواتر عیسا مہسیح دوانزہ پیاوی ہہلبژارد بو ئہوہی بینہ قوتابی و پیرہوانی ئہو، دہیویست ئہم دوانزہ قوتابیہ بہردہوام لہ گہل ئہودا بن، بو ئہوہی گوٲ لہ قسہکانی بگرن و چاودٲری ژیانی ئہو بکہن کہ چوٲن ژیان بہسہردہبات. ئہمہش بوئہوہی لہ دوایدا دوای بکہون و شوٲنی کردارہکانی بکہون. "مہرقٲوس 3: 13 - 15".

دوای نزیکہی دوو سال، عیسا ئہرکٲکی گرینگی بہ قوتابیہکانی سپارد، ئہویش ئہوہبوو پٲی ٲراگہیاندن (پروڻ گہلان بکہن بہ قوتابی) "مہتا 28: 18 - 20" ئہمانیش روٲشتن و چہندین قوتابی و پیرہوکاریان لہ ئورشہلیمہوہ تا ئہوٲہری دونیا دروستکرد "کردار 1: 8" دواتر ئہم قوتابیہنہش ہہلسان بہ بانگہواز و چہندین قوتابی دیکہیان دروستکرد، لہو شوٲنہی کہ ئہمانہ پښتر نہیگہیشتبونی "2 تیمٲوساوس 2: 2". بہم شیوہیہ قوتابیہکانی عیسا ہہلسان بہ دروستکردنی سہدان کہسی دیکہ لہ سہرانسہری جیہان بو ئہوہی شوٲن بیر و باوہری عیسا مہسیح بکہون، ئہمانہ ہہتاوہکو ئہمٲروش لہ موژدہگہری دان و خہریکی دروستکردنی قوتابین لہ سہرانسہری جیہان. پٲلسی ئٲردراو پٲمان ٲرادہگہیہنی کہ عیسا مہسیح ئہرکی تابیہتی بہ مہسیحیہکان سپاردوہ، ئہویش یارمہتی دانی خہلکہ لہ ہہموو ٲروویہکہوہ و زیندوکردنہوہی ٲروٲی مہسیحہ لہ ناخی ہہموویاندا "ئہفہسٲوس 4: 11 - 16" مہبہست لہ چوار نامیلکہہ کہ لہ پښیرہوانی باوہر بریتیہ لہ دروستکردونی قوتابی و یارمہتیدانی کہسانی دیکہیہ ہہتاوہکو یٲنہ سہر باوہری مہسیح، مہبہست لہ قوتابی مہسیحیہکی ٲٲگہیشتوہ لہ بیر و باوہردا.

ئەم كۆرسە تايبەتە بە راھىنانى قوتابىيەكان لەلایەن پېشپەرەوانى گروپەو، بەم شىۋەيەى خوارەو:

1. ھەريەكە لەو چوار نامىلكەيەى كە دەدرېن بە پېشپەرەوانى گروپ 12 وانە لەخۆدەگرېت كە دەتوانرېت لە ماوہى سى مانگدا تەواو بكرېت.

2. سەرچاوە گرینگەكانى ئىنجىل يارمەتى قوتابيان دەدات تاوہكو زانىارى تەواو لەسەر ئىنجىل و مەسىح بەدەست بھېنن.

3. پېشپەرەوى گروپ دەبېت پرسىار دروستبكات و ئاراستەى قوتابىيەكانى بكات و داوايان لى بكات كە ئىنجىل بخویننەو پېش ئەوہى دەستبكەن بە گفتوگو لەو بارەيەو.

4. ھەرۋەھا ئەو تىبىنى و سەرنجانەى كە لەویدا دروان وەلامى پوختى پرسىارەكانى تىدايە، ئەمەش وەك رېبەرەك وايە بۇ پېشپەرەوى گروپەكە.

5. كۆرسى مەشق و راھىنان لەلایەن پراكتىكەكان فېرى قوتابىيەكان دەكات تاوہكو ئەوانىش بە گروپى بچوك بچوك مەشق و راھىنان بكەن و باسى چۇنيەتى بوون بە قوتابى بكەن.

6. ھەر وانەيەك ئامادەكارىەكى تىدايە تاوہكو لە مالمەوہ جىبەجى بكرېت، ئەمەش دەدرېتە قوتابىيەكان و ئەوانىش لە مالمەوہ جىبەجى دەكەن.

7. دواى تەواوکردنى ھەر كۆرسىكى 12 وانەيى ئەو قوتابيانەى كە كارى فېركارىيەكە ئەنجام دەدەن بۇ چەند گروپىكى بچوكتەر دابەش دەكرېن، ھەريەكە و كۆپىەكى ئەو نامىلكەيە وەردەگرېت بۇ پېشپەرەوى گروپەكان.

- پارانەوہى ئىمە لە خوداى بالادەست ئەوہيە كە ھەرچى زووە ژمارەى قوتابيان زياد بكات، بە تايبەتى لەو ناوچانەى كە ژمارەى باوہردارانى زۆرە "كردار 6: 7".

خوداى بالادەست ھەمىشە شكۆمەند و مەزنە (ھەمووشتيك لە خوداويە و ھەمووشتيكىش ھەر بۇ ئەوہ و ھەموومان بۇ لاى ئەو دەگەرېينەوہ) "رۇما 11: 36".

دۇتا (مەشق و راھىنانى بوون بە قوتابى)

سىيەم چاپى 2009

(مافى كۆپىکردن)

ھەرچوار نامىلكەكە بۇ پېشپەرەوانى گروپە، مافى كۆپىکردن پاریزراوہ، بەلام كۆپىکردنى ئازادە بۇ مەبەستى مەشق و راھىنان و نايىت بفرۆشرېت، يان گۆرانكارى تىدا بكرېت، يان وەربگىردرېتە سەر زمانى دىكە بەبى رەزامەندى دانەر. پەسەندکردن

ئەم نامىلكانە زۆر سوودبەخشن و دەتوانرېت لە بواری فراواندا بەكار بھېنرېن، بەلام لەبەر ئەوہى ناوہرۆكى ئەم چوار نامىلكەيە تايبەتە بە قوتابيانى مەسىح و تەنھا ئەوان مەشق و راھىنانى لەسەر دەكەن. ئەم چوار نامىلكەيە تەنھا لەلای پېشپەرەوانى گروپ دەبېت و ئەوانىش قوتابى دروست دەكەن و لە شىۋەى وانەدا فېرى ناوہرۆكى نامىلكەكانيان دەكەن، قوتابى تەنھا كۆپىيەك لەو وانەيە وەردەگرېت كە دەخوینېت و دواى ئەوہى كە ھەموو دوانزە وانەكەى تەواو كرد لە نامىلكەكە، ئەگەر قوتابىيەكە ويستى گروپى دىكە و كەسانى دىكە فېر بكات، ئەوا دەتوانرېت ئەو نامىلكەيە وەربگرېت.

ناوهرۆك

چوار نامىلكەكە بۇ پېشپەرەوانى گروپ

– سەرەتا ناساندن و كۆپى كىردن

(پروگراممى مەشقىي كىردن و پراھىيان – 1)

پروگراممى ھەفتانەيە بۇ ماوھ سى مانگ كە ھەفتەي كاترمپرىك و نيو بۇ دوو كاترمپر دەخايەنيت. پېويستيشە گروپەكان زور گەورە نە بن، لەنيوان (3 – 10) كەسدا بن، ھەر پروگراممىك بە دوعا و نزا دەست پېدەكات و بە نزا و پارانەوھ و ئەركى مالەوھ كۆتايى ديت.

✓ وانەي 37 پەرسىتن (فېركىردنى بوونى خودا) و تەرخانكىردنى كات "يەشوع 1: 4"

فېركىردن

✓ وانەي 38 تەرخانكىردنى كات بۇ خودا "يەشوع 5: 13- 8: 35"

لەبەركىردن (خودايەتتى) "رۇما 12: 21"

خوېندنەوھى ئىنجىل (پارە لەجىھاندا) "1 تىمۇساوس 6: 3 – 19"

✓ وانەي 39 پەرسىتن (گوېگرتن بۇ خودا)

تەرخانكىردنى كات بۇ خودا (راعوس 1: 4)

فېركىردن (تاييەت مەندى مەسىح، رۇحى لېبووردەيى)

✓ وانەي 40 تەرخانكىردنى كات بۇ خودا "1 ساموئېل 9، 10، 12، 14"

لەبەركىردن "دانىال، لۇقا 9: 23"

خوېندنەوھى ئىنجىل (فريودان و فېلكىردن لە جىھاندا) "مەتتا 4: 1 – 11"

✓ وانەي 41 پەرسىتن (پەسەندكىردنى خودا)

تەرخانكىردنى كات بۇ خودا "2 ساموئېل 15، 17، 18، 22"

فېركىردن (پەيوەندىيەكانى دايك و باوك – مندال)

✓ وانەي 42 تەرخانكىردنى كات بۇ خودا "نحەميا 4: 8، 9، 10"

لەبەركىردن (خزمەتكىردن) "مەرقۇس 10: 45"

خوېندنەوھى ئىنجىل (گيانى شەروشور لە جىھاندا) "ئەفەسسۇس 6: 10 –

20"

✓ وانەي 43 پەرسىتن (سوپاسكىردنى خودا)

تەرخانكىردنى كات بۇ خودا "ئەستىر 2: 3، 4، 5"

فېركىردن (دەسەلاتدارىتتى، زانىنى مەبەستى خودا)

✓ وانەي 44 تەرخانكىردنى كات بۇ خودا "ئەستىر 2: 3، 4، 5"

لەبەركىردن (بەخشىن 2 كۆرۇنسۇس 9: 6 – 7)

خوېندنەوھى ئىنجىل (ئازارچەشتن لە جىھاندا) "1 پەترۇس 2: 11 – 25"

✓ وانەي 45 پەرسىتن (ژيان بۇ شكۆمەندى خودا)

تەرخانكىردنى كات بۇ خودا "ئەيوپ 1، 2، 12، 14"

فېركىردن (رۇحى پېرۇز پېرۇزكىردن بە رۇحى پېرۇز)

✓ وانەي 46 تەرخانكىردنى كات بۇ خودا "ئەيوپ 38، 39، 40، 41، 42"

لەبەركىردن (دروستكىردنى قوتابى) "مەتتا 28: 18 – 20"

خوېندنەوھى ئىنجىل (بەرھەمى رۇح لە جىھاندا) "غەلاتيا 5: 13 – 26"

✓ وانهی 47 په رستن (خوټه رخانکردن بو خودا و داواکاریه کانی)
 ته رخانکردنی کات بو خودا "لېږتییه کان 4 - 1 - 4"
 فېرکردن (سه رکردایه تی، تاییه تمه ندییه کانی پېشره وی مه سیحی)
 ✓ وانهی 48 خوټه رخانکردن بو خودا "لېږتییه کان 4"
 له بهرکردن (پېداچوونه وهی زنجیره که، قوتا بیه تی)
 خویندنه وهی ئینجیل (باسکردنی سه رکردایه تی و پېشره وی له کوښوونه وه و
 کوره کاند) "کردار 20: 17-38"
 به رده وام به له گه شه کردن و دروستکردنی گروهی نوی
 پاشکووی 1 (به خشین، باجی ده یه که له په یمانی کوندا (به شیکتی ئینجیل))
 پاشکووی 2 تاییه تمه ندی مه سیحی، تووره پی
 پاشکووی 3 ده سه لاتداریتی، به هله لیکدانه وه و به راووردکردنی له گه ل زانینی
 مه به ستی خودا.
 پاشکووی 4 سه رکردایه تی، گه شه سه ندنی میژووی سه رکردایه تی له
 کلپسای مه سیحدا.
 پاشکووی 5 سه رکردایه تی، رابه ری کلپسا له په یمانی نویدا.
 پاشکوکان ریگا کانی ته رخانکردنی کات بو خودا، خویندنه وهی ئینجیل،
 له بهرکردن، بیرکردنه وهی قول، ده توانیت پاشکوکان ببینیت له نامیلکه که ی
 به که مدا که بو پېشره وانی گروهه.

(پروگرامی مه شق پیکردن و راهینان) 2

پروگرامیکتی به هیزکاره که ده توانریت هه فته ی جاریک به کاربېنریت بو ماوهی یه که
 روژی ته واو، یا خود ده توانریت له ماوهی سیماناره کاند به کاربېنریت که شه ش
 روژ پېشره وی گروه ده ییت، گروهه که بکاته چنده گروهیکتی بچوکت و گروهه کان له
 نیوان 3 بو 10 که سدا بن.

پروگرامی پېشنارکراو
 9 - 9/30 په رستن (گروه)
 9 - 9/30 - 11 فېرکردن (گروه)

پشوودان

1 - 11/30 خویندنه وهی ئینجیل (گروه)

پشوودان

4 - 5 کاتی زیاده بو ته واوکردنی فېرکردن یان خویندنه وهی ئینجیل یان
 وه لامدانه وهی ئینجیل یان فېرکردنی شتی دیکه ی زیاده (گروه)

پشوودان

5/30 - 5 / 45 بیرکردنه وه و له بهرکردن (2 به 2)

5 / 45 - 6 / 30 خویندنه وهی ئینجیل به ته نها

6/30 - 7 ته رخانکردنی کات بو خودا (2 به 2)

7 - 7 / 45 دوعا و پارانوهه (به گروهی بچوکت بچوکت، زیاتر نه ییت له 10 که س)

روژی به که م وانهی 37 + 38

روژی دووه م وانهی 39 + 40

روژی سییه م وانهی 41 + 42

رۆژی چوارەم وانەى 43 + 44
رۆژی پینجەم وانەى 45 + 46
رۆژی شەشەم 47 + 48
ئەگەر فێرکردنى زیاده هەبوو ئەوا ئەمانە فێردەکریین
پاشکۆى یەكەم
پاشکۆى دووهم
پاشکۆى سێیەم
پاشکۆى چوارەم
پاشکۆى پینجەم